


بچوں کے لئے بائبل  
تحائف



ایلیا، معجزہ  
ہند انسان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Lazarus  
Alastair Paterson

کے مطابق: Ruth Klassen

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



زمین و آئینہ خاطر اُس نہ داند کافی کینہہ۔ بیا کہ اکھ  
اوس ضرورتہ۔ ایلینا اوس اکھ جوان گریوس مگر  
ثمہ موکھ رکیونہ سہ کینہہ! ثمی جوڑ پین پان  
داندس ستی تہ رتن خالی داند سنز جائے۔  
سہ اُس ہے پزی پاٹھی اکھ مضبوط،  
چالاک محنتی انسان۔



ايليسا ييلَه زمين واين اوس، ايليا خدایه  
سُند نبی آو تپاری تِه کورن تُمس آلو- تمی  
نوجوان شخصژن تراؤو پُنن کههه خدایه  
سُند خدمت گار بن نِه خاَطِر. اکِه دوه تلُ  
خداین ايليا تيز واو ستي ووتِه نؤون آسمانس  
منز- وونی اوس ايليسا اسراييلس منز  
خداوند سُند نبی-



اگرچہ ایلِیسا ایلِیا سُنْدِ نِرنِ سَتِی مایوس اوس گومت،  
تْمی کور خدایس دعا تمس دیہ ہے ایلِیاہس ہیو طاقتہ۔  
ایلِیساہن تل ایلِیا سُنْدِ چوغہ، لوہن پکہ وونس  
دری یوس یتھ پاتھی ایلِیاہن کورمت اوس۔

سُہ آب گوو تقسیم!  
ایلِیساہن زون وونی ز  
خدا اوس اُمس سَتِی۔





بیتھل قصبس کُن گڑھان کرِ  
کینٹرو نوجوانو ایلیساً ستی  
مسخریل، کریکھہ اَس  
دیوان، "ژلی راؤ ہن ترامہ  
کلہ!" تِمن اوس نہ پرؤایئ سہ  
اوس خداوند سُنڈ خدمت  
گار۔ اکھ دلدوز واقع او  
تِمن پیش۔ ز ہاپڑی آیہ جنگلہ  
منز نیریتھ تہ دیتاجی نوجوان  
کریکھ زخمی۔



اکہ دوہ سمکھو ایلِسا اُکس مونڈِ یمس قرض

اوس یس نہ سہ نکھیے ہیکان وَاَلتھ

اَس۔ قرض دینہ وول اوس پُنی

روپیہ حاصل کرنہ خاَطِرِ

اہندین دَوْن نیچوین بحثیتِ


غلام نی وول۔ ایلِسا ہن

وَوْن، "گژھ سارنی ہمساین ہیہ


خالی بانہ وُوَزم۔" خدا اوس

اُمس زنانہ ہندِ خاَطِرِ کینہہ

تھام معجزِ کرن وول۔



تُمس مَوْنِدِ اوسِ گرس منزا که  
لُوکٹ ژوڈ یتھ منز تیل اوس۔ پوز تمہ  
لوگ تمہ لکٹہ ژڈ منز تمام بانن  
کافی تیل برؤن! اگر تمن دوہن تمن  
سرانہ ٹب اُس ہن، کیاہ توہی چھو  
مانان خداین آسہ ہن تم تہ بریتھ  
تھاؤمت؟ تمہ موند کئی تیل تہ پنی  
نیچو و بچاؤنی۔



دوئيم زنانہ بيٺي تمہ

سُندِ خاندان بننواؤ پَنَس

گرس منڙاڪھ خاص

ڪمرہ یتھ منڙايليسا روزي

بيٺي سُه اڀار گوزريهه - تمو


تھاؤ اتھ ڪمرس منڙاڪھ

بستر، اڪھ ميز تہ اڪھ

ڙونگ - سُه ڪمرہ اوس

ايليسا سُندي خاطر


مخصوص -



ایلیسا ہس گوو تعجب ز سہ کتہ پاٹھی کر یمن دون باژن ہنز رحم دلی ہنز حق  
ادایہ۔ ییلہ تمس پتاہ لجه تم چہ بے اولاد، تم ون کینہہ تمس زنانہ یتہ پیٹھ سو  
مشکلن برؤسہ کرہے۔ "لگ بگ دو بیٹی وری بیمے وقتہ رٹھین ژ اکھ نیچو کھونہ۔"  
سپٹھاہ پڑھی پتہ اکھ وری، زاؤ اکھ بچہ۔



کینہہ وری پتہ سہ بچہ اوس پُنس مالس ستی کھس منز۔ بچن دژ کریکھ، "میون  
کلہ، میون کلہ۔" ییلہ سہ لڑکہ پنی ماجہ نش انکھ، سہ بیوٹھ تمہ سندین کوٹھن پیٹھ  
دپہر تام، تہ پتہ مؤد۔ تمہ ماجہ تراوو سہ ایلینسا ہنس کمرس منز بسترس پیٹھ۔ توہی  
کیاہ چھو سونچان تمس کس کرہے مدد؟



کياہ تُوہی ونووه ايليسا؟ تہ چُھ صيحي! تمہ لد خرَس زين تہ تيزی سان درايس ژھارنہ۔  
ايليسا ووت اہندس گرس منز، کھوت کُننہ زون بير بيور تہ کورن خداوندس کُن  
دُعا۔ خداين دژ لڑکس زندگي واپس۔ ايليسا ہن کور تُمس زنانہ آلو تہ ووَنس، "تُلن

پن نيچو"۔ سو کِژ خوش  
اَس ہے گمژ!




شام کس سر زمینس نکھ اوس  
نمان ناوک اکھ فوجی افسر روزان۔  
سہ اوس بہودور تہ مضبوط، مگر  
تس اس اکھ ہابتہ ناک ژمہ ہنز  
بیمار یتہ جذام ونان چہ۔



نِماننِ زَنانِ اَس اِکھ لوندی لِکٹ  
کُورِ یسِ اسراییلِ پِٹھِ رِٹھِ اَنِمِثْر  
اَسکھ۔ اُمی لکچہ کُورِ وون،  
"اگر فقط نِمانِ تمس نیس سِی  
اَسہرے یسُ اسراییلِس مَنز چھو!  
سُہ بلراویہ تُمسِ جدام۔"



إِمانَ دَرَأو یكدم تمس نبیس وچهنه- تمه تلی توفه خاطر  
سون، چاندى ته خوب صورت پلو-




ایلیسا بن خدمت گار درآو نیبر  
تہ وُنن، "گژھ تہ چهل اردنکس  
دری یاوس منز ستہ لٹہ پان تہ ژ  
گژھک صاف۔" نمانس کھڑ  
سخت شرارت۔ سہ کرہے نا  
شامکین پنی سر زمین کین  
صاف و شفاف دری یاون منز  
صاف؟ سہ پھیڑ شراتہ سان  
واپس تہ درآو گر کُن۔





نِماننِ خوش قِسْمَتِي، تَمِ سَنَدِ  
خَدْمَتِ گَارِنِ كِرِ ايليسَا سُنَدِ  
حَكْمِ مانَسِ پيٽھِ تَمَسِ سَتِي  
كَتھِ۔ تِيٽھِي ووتھِ نِمانِ  
بُونِ كَنِ تِهْ دِژِنِ سَتِهْ لُٽِهْ  
دَرِي يائِ اَرَدَنَسِ مَنزِ دُونَجِهِ۔  
تِهْ نِمانِ جَدَامِ لَدَسِ گووِ شَفَا!  
پَتِهْ كِرِ نِماننِ پُزَسِ خَدَاوَنَدَسِ عِبَادَتِ،  
ايليسَا بِنِ خَدَاوَنَدِ، سُهْ خَدَاوَنَدِ پِمِهْ  
تَمَسِ جَدَامَسِ شَفَا بَخَشِ۔





خداوندن پڙ پښس خدمت گار  
ایلیسا هس مرنه پته ته کام. اکه دوه، اوس  
اکه شخص تته غارس منز دفن گوومت  
یته منز ایلیسا واره بزونه دفن اوس  
گوومت. ییله تمس شخصس سند مرده  
جسم تمس نبی سترن ارجن ستری  
لوگ، شه شخص او واپس ته ووته  
پنن کهورن پیپه تهود. خداوندن  
هاوو پنن عظیم طاقته پښس وفادار  
خدمت گار ایلیسا بن ذریعه.



ایلیا، معجزن ہند انسان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

2 بادشاہ 2-13

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

